

اس پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ (PDS) کے اردو ترجمے کی بنیاد انگریزی متن مورخہ 18 جون 2015 پر رکھی گئی ہے۔

پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ



پراجیکٹ ڈیٹا شیٹس (PDS - Project Data Sheet) میں پراجیکٹ یا پروگرام سے متعلق معلومات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے: چونکہ PDS جاری پراجیکٹس کے بارے میں ہوتی ہے، اس لیے اس کے ابتدائی مرحلے میں بعض معلومات شامل نہیں کی جاسکتی لیکن جب یہ معلومات دستیاب ہوتی ہیں تو انہیں شامل کر لیا جاتا ہے۔ مجوزہ پراجیکٹس کے بارے میں مندرجہ معلومات عارضی اور اشاراتی نوعیت کی ہوتی ہیں۔

PDS تیار کرنے کی تاریخ -

30 مارچ 15

PDS اپ ڈیٹ کرنے کی تاریخ

پراجیکٹ کا نام	خیبر پختونخوا شعبہ آبی وسائل پراجیکٹ
ملک	پاکستان
پراجیکٹ/پروگرام نمبر	47024-004
کیفیت/ صورت حال	مجوزہ
جغرافیائی محل و وقوع/جگہ	صوبہ خیبر پختونخوا
کسی بھی ملکی پروگرام یا حکمت عملی تشکیل دینے۔ کسی پراجیکٹ کی مالی معاونت کرنے یا کسی عہدے یا حوالہ دینے سے ایشیائی ترقیاتی بینک کا کسی علاقے یا جغرافیائی حدود کی قانونی یا دیگر حیثیت کے بارے میں رائے قائم کرنا مراد نہیں ہے۔	
شعبہ ذیلی شعبہ	زراعت، قدرتی وسائل اور دیہی ترقی زرعی پیداوار آپاشی
اسٹریٹجک ایجنڈا	جامع معاشی نمو (IEG) صنعتی مساوات اور قومی دھارے میں شمولیت (GEM) طرز حکمرانی اور صلاحیت سازی (GCD)
تبدیلی کے محرکات	
صنعتی مساوات اور صنف کو مرکزی دھارے میں لانے کی کٹیگریاں	کٹیگری 3: بعض صنعتی عناصر (SGE)

مالیت کاری

منظور شدہ رقم [بزار]	منظور شدہ نمبر	فنانسنگ کا ذریعہ	مالی معاونت کی قسم / طریقہ
100,000	-	عمومی سرمایہ کے وسائل	قرضہ
12,000	-	ہم منصب	-
112,000 امریکی ڈالر			میزان

تحفظ کی کیٹیگریاں

تحفظ کی کیٹیگریوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مہربانی فرماکر یہ ویب سائٹ دیکھیں:
<http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories>

A	ماحول
B	غیر رضاکارانہ نوآباد کاری
C	مقامی لوگ

ماحولیاتی اور سماجی مسائل کا خلاصہ

ماحولیاتی پہلو	-
غیر رضاکارانہ آباد کاری	-
مقامی لوگ	-

اسٹیک ہولڈرز (متعلقہ افراد اور اداروں) سے ابلاغ، ان کی شرکت اور مشاورت

پراجیکٹ کے ڈیزائن کے دوران	TBD
پراجیکٹ کے عملدرآمد کے دوران	TBD

تفصیل

شعبہ جاتی قرضہ پراجیکٹ تجویز کیا گیا ہے کیونکہ KPP کی حکومت کا ترقیاتی منصوبہ یہ ہے کہ IAWR شعبہ کی ترجیحی ترقیاتی ضروریات کو 2017 تک CDS کے مطابق پورا کیا جائے اور چھوٹے اور درمیانے ٹیم کی تعمیرات سے وابستہ نئی آبپاشی پر مبنی زراعت کی پیش رفت کے لیے نشانہ بندی کردہ مختلف منصوبوں کو مکمل کیا جائے پاکستان کے لیے ملکی شراکت کی حکمت عملی کے مطابق مجوزہ پراجیکٹ پانی اور آبپاشی کے نظام کو ترجیح قرار دیتا ہے اور آبپاشی پر مبنی زراعت کی توسیع کے ساتھ ساتھ آبپاشی کے نظام کی بحالی پر توجہ دیتا ہے۔ اس میں ملکی آپریشنز کا کاروباری منصوبہ شامل ہے۔ ADB پہلے ہی 700 ملین ڈالر کے پنجاب آبپاشی زراعت سرمایہ کاری پروگرام (PIAIP) کے ذریعے 2 ملین ہیکٹرز سے زائد زمین کی بہتری کے لیے مالیت کاری کر رہا ہے۔ اس میں آبپاشی کے انفراسٹرکچر کی بہتری، فارم کی زراعت میں اضافہ اور ادارہ جاتی اصلاحات شامل ہیں۔ اس مجوزہ پراجیکٹ کے نتیجے میں فارم کی آمدن میں اضافہ اور خیبر پختونخوا کے زرعی علاقوں میں دیہی گھرانوں کی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ زرعی علاقوں میں وسیع تر زرعی پیداوار ہوگی۔ مندرجہ ذیل کوششوں کی جائیں گی: (i) زرعی علاقوں میں فراہمی آب کی وسیع تر استعداد، (ii) زرعی علاقوں میں پانی کے استعمال اور فارم کے انتظام و انصرام کی وسیع تر استعداد، اور (iii) موثر اور مفید پراجیکٹ مینیجمنٹ کا نظام۔ پراجیکٹ ڈیزائن اور عمل درآمد کے بنیادی مسائل درج ذیل ہوں گے (i) سیکورٹی کے مسئلے، مضبوط معاشی صورت حال، حصول اراضی کی ضرورت، آبادکاری، پراجیکٹ کے عمل درآمد کے درمیان نقصانات کا معاوضہ دینے کو مدنظر رکھ کر قابل عمل ذیلی منصوبوں کا انتخاب کرنا اور (ii) ماحول اور غیر رضاکارانہ آبادکاری کے اثرات کا محتاط جائزہ۔

پراجیکٹ کی خصوصیات اور اس کا ملکی/علاقائی حکمت عملی سے تعلق

آج پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج معاشی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے جبکہ معیشت کو وسیع تر بنیاد پر پائیدار نمو کے راستے پر گامزن کرنا ہے۔ اس کے لیے 2015 تک غربت میں کمی کرنا اور ملینیم ترقیاتی اہداف کے عہد و پیمانہ کو پورا کرنا ضروری ہے۔ پائیدار اور جامع نمو و ترقی کے حصول کے لیے پبلک پالیسی میں ملازمت کی فراہمی اور معیشت کی پیداواری صلاحیت کے فروغ پر زور دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ نمو کو برقرار رکھنے، ملازمتیں دینے اور غربت کو کم کرنے کے لیے انتظامی تبدیلی ایک بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ گزشتہ تین دہائیوں کے دوران پاکستان کی آبادی 65 ملین سے 162 ملین ہو گئی ہے اور 2025 تک 234 ملین ہونے کی توقع ہے۔ تقریباً 68 فیصد دیہی آبادی کا انحصار زراعت پر ہوتا ہے جہاں 46 فیصد لوگ کام کرتے ہیں اور پاکستان کے زرمبادلہ کا 60 فیصد بچاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا (KPP) کے صوبے کی آبادی 2009 میں 22.2 ملین سے زائد تھی اور آبادی میں موجودہ اضافے کی شرح 2.8 فیصد سالانہ کو مدنظر رکھتے ہوئے اس میں 2025 تک 34.5 ملین کا اضافہ ہونے کی توقع ہے۔ KPP میں اندازاً 80 فیصد آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے اور 75 فیصد سے زائد آبادی کے روزگار کا انحصار زراعت پر ہے۔ ملک کی اراضی کا تقریباً 25 فیصد علاقہ جو زراعت کے لیے انتہائی مفید اور مناسب ہے، وہ سیلاب، سیم، کھاراپن، زمین کی بارآوری کی کمی کا شکار ہے اور خاص طور پر آبپاشی کے لیے محدود پانی یا اس کی عدم دستیابی بھی ایک مسئلہ ہے۔ پاکستان کے کل رقبے تقریباً 79.61 ملین ہیکٹر زمین میں سے 68 ملین ہیکٹر زمین [85.4 فیصد] پر سالانہ بارش 300 ملی لیٹرز سے بھی کم ہوتی ہے اور اس طرح پاکستان کے زرعی علاقے کا اندازاً 80 فیصد کا دارومدار مکمل طور پر آبپاشی پر ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 10.17 ملین اراضی ہے جس میں سے صرف 16.6 فیصد زمین قابل کاشت ہے جس میں سے 50 فیصد سے زائد پہلے ہی آبپاشی پر مبنی ہے اور 15 فیصد بارش سے ہونے والی فصلوں پر مشتمل ہے جبکہ 30 فیصد زمین کاشت نہیں ہوتی ہے۔ پاکستان کو آبپاشی پر مبنی زراعت اور پانی کے وسائل (IAWR) کے شعبے میں سنگین مسائل کا سامنا ہے جیسے (i) زوال پذیر اور غیر موثر آبپاشی کا نظام، (ii) آبپاشی کے فراہمی خدمات کی ناقص کارکردگی، (iii) پانی کے استعمال اور پانی کی پیداوار کی کم استعداد، (iv) زیر زمین پانی کا بے تحاشا استعمال اور ناقص معیار اور (v) پانی سٹور کرنے کی استعداد میں کمی۔ KPP بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ اس صوبے کی جامع ترقیاتی حکمت عملی (CDS) برائے 2010-2017 نے IAWR کے شعبے کے بنیادی مسائل اجاگر کیے ہیں۔ فراہمی آب کے حوالے سے درج ذیل مسائل ہیں: (i) پانی اور اس کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں کمی، (ii) پانی کی غیر مساوی تقسیم اور لاگت کی کم وصولی جس کے نتیجے میں دیکھ بھال متاثر ہوتی ہے، (iii) آبپاشی کے نظام کو چلانے کے لیے محدود ادارہ جاتی صلاحیت اور (iv) سرمایہ کی محدود دستیابی۔ پانی کے استعمال کے حوالے سے بارشوں پر مبنی زراعت اور آبپاشی کے زرعی انتظام کے ناقص طریقے ہیں۔ حکومت پاکستان اور KPP کے صوبے کی اولین ترجیح IAWR کا شعبہ ہے۔ پاکستان اکیسویں صدی میں: ویژن 2030 میں IAWR کے شعبے کے مسائل کو تسلیم کیا گیا ہے اور "فی قطرہ زیادہ فصل" کے تصور کو فروغ دینے اور پانی سٹور کرنے کی استعداد میں اضافے کے لیے حکمت عملی پر مبنی طریقہ کار تجویز کیا گیا ہے۔ نیز آبپاشی کے آبی وسائل کے انتظام و انصرام کے ذریعے پانی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ ان تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خصوصی اقدام کرنے ہوں گے جیسے (i) آبی وسائل کا تحفظ، (ii) پانی سے متعلق انفراسٹرکچر کے فوائد کا حصول، (iii) پانی کی استعداد کو اور زیادہ بہتر بنانا، (iv) بہتر زرعی طریقوں کا استعمال، (v) فیصلہ سازی کے عمل میں اسٹیک ہولڈرز کی شرکت کو موثر بنانا اور (vi) زیر زمین پانی کا موثر انتظام و انصرام۔ خیبر پختونخوا میں CDS کا ہدف 2015 تک 70,000 ہیکٹر زمین کو قابل کاشت بنانا ہے تاکہ اس صوبے کی آبادی کی ضروریات کو پورا کیا جاسکے۔ اس نے IAWR کے شعبے کے مسائل حل کرنے کے لیے پانی کی فراہمی اور اس کا استعمال دونوں حوالوں سے مختلف اقدام کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ پانی کی فراہمی کے حوالے سے CDS میں درج ذیل تجاویز دی گئی ہیں: (i) آبپاشی کے لیے مناسب پانی کی فراہمی اور پانی کے ذخیرہ کا فروغ، (ii) آبپاشی کے نظام میں 40 سے 45 فیصد تک مجموعی اضافہ تاکہ پانی کی تقسیم میں انصاف ہوسکے اور آبپاشی کے علاقے کا اضافہ ہوسکے اور (iii) سیلاب کے پانی کا بہتر استعمال اور پہاڑی علاقوں سے اس کا بہاؤ نیز بارش کے پانی کا ذخیرہ کرنا اور پانی کے نالوں کا انتظام بہتر کرنا اور سیلاب میں کمی کرنا اور (iv) پانی کی فراہمی کے اداروں جیسے محکمہ آبپاشی خیبر پختونخوا (KPID) سمیت دفتر ڈائریکٹر جنرل شمال ڈیمز (DGSD) کی ادارہ جاتی استعداد میں اضافہ۔ پانی کے استعمال کے حوالے سے (i) پانی کے انتظام و انصرام میں سہولت، (ii) پانی کے استعمال اور پیداوار پر زیادہ توجہ اور (iii) آبپاشی اور زمین کی تیاری کے ذریعے بے کار زمین کو قابل کاشت بنانا نیز پانی کی فراہمی کے لیے ترجیحی اقدامات کرنا۔ موجودہ آبپاشی کے نظام میں کاشتکار تنظیموں نے فارم کے آبپاشی نظام کو چلانے اور دیکھ بھال (O&M) کرنے کی جدید مہارتیں اور صلاحیتیں حاصل کر لی ہیں۔ زرعی علاقوں میں پانی کے

استعمال کے نظاموں کے O&M کے لیے ذمہ دار کاشتکار تنظیموں اور پانی استعمال کنندہ کمیٹیوں (WUCs) کو تشکیل دینا پڑے گا اور ان کی تربیت کرنا ہوگا۔

■ ترقیاتی اثرات

زیر ہدف KPP کے علاقہ جات میں فارم کی آمدن اور غیر کاشتکار گھرانوں کی آمدن بہتر ہوگی۔

■ پراجیکٹ کے نتائج

نتائج کے حصول کے لیے پیش رفت

نتائج کی تفصیل

KPP کے زرعی علاقوں میں زراعت کی افادیت میں اضافہ

■ کوششوں اور عملدرآمد کی پیش رفت

عملدرآمد کی پیش رفت کی صورت حال
(کوششیں، سرگرمیاں اور مسائل)

پراجیکٹ کی کوششوں کی تفصیل

1- زرعی علاقوں میں وسیع تر پانی کی فراہمی کی استعداد
2- زرعی علاقوں میں وسیع تر پانی کا استعمال اور فارم کی منیجمنٹ کی استعداد
3- پراجیکٹ کی منیجمنٹ کا موثر اور مناسب نظام

آپریشن/تعمیر کی صورت حال

ترقیاتی مقاصد کی صورت حال

-

-

مادی تبدیلیاں

-

■ کاروباری مواقع

پہلی فہرست کی تاریخ

مشاورتی خدمات

پروکیورمنٹ

پروکیورمنٹ اور کنسلٹنسی کے مواقع کے لیے دیکھیں:

<http://www.adb.org/projects/47024-004/business-opportunities>

نظام الاوقات

تصوراتی خاکہ کی وضاحت	24 اکتوبر 13
حقائق کی جانچ پڑتال	27 اپریل 2015 تا 30 اپریل 2015
انتظامیہ کی جائزہ کمیٹی	6 جولائی 15
منظوری	-

سنگ میل

منظوری نمبر	منظوری	دستخط	موثریت	اختتام		
				اصل	نظر ثانی شدہ	حقیقتی
-	-	-	-	-	-	-

استعمال

تاریخ	منظوری نمبر	ADB [ہزار ڈالر]	دیگر [ہزار ڈالر]	فیصد
معابدہ کامجموعی ایوارڈ				
-	-	-	-	-
رقم کی مجموعی ادائیگی				
-	-	-	-	-

معابدہ جات کی صورت حال

معابدہ جات کی اقسام کی مندرجہ ذیل درجہ بندی کی جاتی ہے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، تحفظ کے امور، سماجی شعبہ، مالیاتی، معاشی اور دیگر۔ مندرجہ ذیل معیار کے مطابق معابدہ جات کی ہر ایک قسم کی درجہ بندی کی جاتی ہے: (i) تسلی بخش اس درجہ بندی میں تمام معابدہ جات کی شرائط کی تعمیل کی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک استثناء دینے کی اجازت ہوتی ہے، (ii) جزوی تسلی بخش اس درجہ بندی میں زیادہ سے زیادہ دو معابدوں کی شرائط کی تعمیل نہیں کی جاتی ہے، (iii) غیر تسلی بخش اس درجہ بندی میں تین یا اس سے زائد معابدوں کی شرائط کی تعمیل نہیں کی جاتی ہے۔ ابلاغ عامہ پالیسی 2011 کے مطابق پراجیکٹ کے مالیاتی گوشواروں کے لیے معابدہ کی درجہ بندی کا اطلاق صرف ان پراجیکٹس پر ہوتا ہے جن کی بات چیت کی دعوت 2 اپریل 2012 کے بعد دی گئی ہو۔

منظوری نمبر	شعبہ جاتی	سماجی	مالی	معاشی	دیگر	تحفظ کے امور	پراجیکٹ کے مالیاتی گوشوارے
فرضہ	-	-	-	-	-	-	-

رابطے اور تازہ ترین تفصیلات

Ryutaro Takaku (rtakaku@adb.org)	ADB کا ذمہ دار افسر
سنٹرل و ویسٹ ایشیاء ڈیپارٹمنٹ	ADB کا ذمہ دار محکمہ
ماحول، قدرتی وسائل اور زراعت ڈویژن، CWRD	ADB کے ذمہ دار ڈویژن
-	عملدرآمد کرنے والی ایجنسی

رابطے

http://www.adb.org/projects/47024-004/main	پراجیکٹ کی ویب سائٹ
http://www.adb.org/projects/47024-004/documents	پراجیکٹ کی دستاویزات کی فہرست

